

7974 - اسماعیل و فریقے کے شخص کا سوال کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرقہ وارانہ فرقہ کونسا ہے؟

سوال

اہل سنت مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور ہم (اسماعیلی شیعہ) بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ شیعہ اور سنی دو مختلف فرقے ہیں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

بیشک جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے اور اسلام کی طرف نسبت رکھتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ، اور نماز ، روزے اور حج اور زکاة کے وجوب کا اقرار کرتے ہیں لیکن ہیں وہ مختلف گروہ ، اور ہر ایک گروہ اور فرقے کا اعتقادات ، عبادات میں ایک خاص طریقہ ہے ، تو ان سب فرقوں اور گروہوں میں بہتر اہل سنت والجماعت ہیں ، اور یہی گروہ ظاہری اور باطنی طور پر کتاب و سنت کا متبع اور اس پر چلنے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے مہاجرین و انصار کی اتباع کرنے والا ہے ۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کا ترجمہ ہے :

اور مہاجرین و انصار میں سے سبقت لے جانے والے اور جنہوں نے اچھے اور احسن طریقے سے ان کی اتباع کی --- ایت کے آخر تک

اور ان گروہوں اور فرقوں میں سے سب سے بدترین اور برا گروہ وہ ہے جو کہ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے ، اور وہ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہتے ہیں جو کہ ان دلوں میں نہیں ہوتا انہی لوگوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے :

اور لوگوں میں بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ، لیکن درحقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک :

اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں ، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مذاق کرتے تھے

تو ان دونوں اہل سنت اور اسماعیلی شیعہ کے درمیان بہت سارے گروہ اور فرقے ہیں جو کہ خیر اور شر کے دور اور قریب ہونے کے اعتبار سے مختلف درجات رکھتے ہیں ، اور اسماعیلی فرقہ غالی قسم کے رافضیوں میں سے ہے ، جو کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار کرتے اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں ۔

تو اسی لئے کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ فاطمی اسماعیلیوں کے بھائی ہیں ، کہ وہ ظاہری طور پر رافضیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور باطنی طور پر کفر محض کا ، اور ان کا نام باطنی اس لئے رکھا گیا ہے کہ ان کا یہ گمان ہے کہ نصوص شرعیہ اور شریعت جو مسلمان معنی جانتے ہیں وہ باطنی معنی کے مخالف ہے ، مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ پانچ نمازوں کا معنی ان کے اسرار کی معرفت ہے ، اور رمضان کے روزوں کا معنی ان کے رازوں کو چھپانا ہے ، اور حج کا معنی ان کے مشائخ کی طرف سفر کرنا ۔

لیکن باطنیوں - ان میں سے اسماعیلی بھی ہیں - کا سارے کا سارا مذہب اسرار اور سری اشیاء پر مبنی ہے ، تو ان کے اعتقادات کے حقائق سری ہیں جن کی معرفت صرف ان کے ہاں سرداروں کو ہی ہے ، اور یہ سردار اور وڈیرے عامۃ الناس کو خلاف واقعہ باتیں بتاتے اور انہیں حقائق سے دور رکھتے اور ان پر مالی ٹیکس عائد کرتے ہیں جو کہ ان سے خاص اوقات میں وصول کیا جاتا ہے ، اور انہیں اپنی اطاعت متعلق پر مجبور کرتے ہیں ، اور انہیں یہ خوف دلاتے ہیں کہ اگر تم نے ان کی مخالفت کی تو تمہیں نقصان ہو گا اور مصیبت پہنچے گی ، اور انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے اور افطاری کرنے اور حج میں اہل سنت کی مخالفت کریں ، اور بعض اوقات بعض اوقات وہ کسی چیز سے جان بوجھ کر یا پھر دھوکہ دینے کے لئے تسامح اختیار کرتے ہیں ۔

اے صاحب سوال آپ تو اسماعیلی عوام میں سے ہیں ان وڈیروں کے اسرار اور رازوں کا آپ کو علم نہیں ، اور پھر وہ آپ آپ کی طرح کے دوسرے لوگوں کو اس کا اہل بھی نہیں سمجھتے کہ آپ ان اسرار سے واقفیت حاصل کریں کیونکہ اگر ان سے واقفیت ہو گئی تو آپ ان سے نفرت اور برات کا اظہار کرتے ہوئے ان کے باطل عقائد کے ساتھ کفر کرنے لگیں گے ، وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے غلام بن کر ان کے پیچھے چلتے رہو اور تم پر ان کی سرداری قائم رہے ۔

اے سائل اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو غیر اللہ کی غلامی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کی اتباع سے بچاؤ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس اور کی اطاعت و اتباع واجب نہیں ، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرتے ہوئے سنت کا راہ دکھائے اور بدعات سے بچا کر رکھے اور حق کی راہ دکھائے بیشک وہ ہر چیز پر قادر ہے ۔